

Amazigh Ramdane At Mansour

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ إِنبِئَنَّكُمْ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

A yimdanen! Ma di ccekk ay tellam f tnekra, ihi, Nekwni, s tidep, Nxelq

ikwen seg wakal, sinna, si tiqqit n l\$ella, sinna, seg urgan, sinna, si

tecriêt, texleq ur texliq, iwakken ad awen Nbeggen. Neppara, di

tâabbuvin, ayen i £ ihwan, alamma d lajel ipwassnen. Sinna, Nessuffu\$

ikwen id d llufanat, sinna a ppim\$uôem. Segwen llan wid ippemmten, u

segwen win ara iawven d awessur, ard ur ippisin acemma seg wayen

issen. A pwalid akal d a\$uôaô. Ma Nesse\$li d ageffur fellas, ad ikker, ad

icuff, a d ifk tayuga n yal ûûenf uziyn n le\$ôus.